

Grade – VIII

English	OPE: Unit 1. Great Inventions, Unit 2. Horses, Unit 3. Mysteries, Unit 4. Conflicts
	All the work done under vocabulary section.
	Poems: Listeners, Parentade
	OPG: Starting Test. Page No.
	9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 119, 121, 286, 287, 289, 291, 383.
	Novel: Chapter 1-6 (Q/Ans and RTC)
	Unseen Comprehension
	Creative Writing on Dialogue Writing, Story Writing, Informal/Formal Letter, Report
24 11	Writing.
Mathematics	1.(Chap-1) Congruence and Similarity, 2. (Chap-2) Direct and Inverse Proportions,
	3. (Chap -5) Simultaneous Linear Equations, 4. (Chap-6) Pythagoras' Theorem,
	5. (Chap-7) Volume and Surface Area
Urdu	Basic concepts of 1. Numbers, 2. Algebra
Ordu	اد <u>ب:</u> چِچاچھکن نے دھو بن کو کپڑے دیئے،شہزادی کی کہانی، سینما کاعاشق،وطن پہ قربان جاں ہماری، علی بخش، جنگ بر موک
	کاواقعہ، چاند تارے کاپر چم، کو شش و محنت۔ (اسباق کی تمام مشقیں)
	قواعد: کلمه کیا قسام اورانکی تعریف ومشق، واحد جع، متضاد، متر ادف، تفهیم سازی، کهانی، در خواست، سابقے ولاحقے،
	ر پورٹ، جملوں کی ساخت میں تبدیلی،اسم نکرہومعرفہ کی اقسام،خطانویی،مضمون نویی،مذکرمونث،محاورات،مکالمہ نویی،
	ترجمه نولیی،مصنف(کرشن چندراور قدرت الله شهاب) اور شاعر (مولا ناالطاف حسین حالیاور قیوم نظر) کا تعارف_
Science	What makes a Scientist?, Photosynthesis, Adapting to habitat, The structure of atom,
	The periodic table, Exothermic and endothermic reaction, Density, Pressure, Turning
	on a pivot, Electrostatics.
Social Studies	History: What were the causes and consequences of the decline of the Mughal
	Empire?, How successful were the religious thinkers in spreading Islam in the
	subcontinent during the 18 th & 19 th centuries, What were the causes and
	consequences of the War of Independence 1857-58?
	Geography: Fishing and Population.
	All work given in the handouts
Islamiat	as the Model of Excellence, صلى الله عليه وسلم as the Model of Excellence,
	صلی الله Wives of the Holy Prophet صلی الله علیه وسلم Descendants of the Holy Prophet
	, Surah, 4 Hadith. صلى الله عليه وسلم Companions of the Holy Prophet عليه وسلم
Computer	Data Base Management System, Introduction to Ms Access, Data Integrity and Security,
	Understanding number system, Introduction to HTML, Basic HTML command.
Arabic	الكتاب لسان القرآن: الدرس العاشر 'الركب التوصيفي' ، الدرس الحادي عشر 'المركب الإضافي'.
	الكتاب 'أنوار الحكمة': فضل البسملة، الدنيا جسر للآخرة، بالذكر تطيب الحياة.
	Note: All the work done in the copy is included in the syllabus including the vocabulary from lisan ul Quran.
L	1



Grade – VII

English	OPE: Unit 1. Elephants, Unit 2. War and Peace, Unit 3. London, Unit 4. Sugar and Spice
	All the work done under vocabulary section.
	Poems: The field mouse, Don't Believe in War, Oranges and Lemons
	OPG: Starting Test. Page No.
	9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 107, 142, 143, 383.
	Novel: Chapter 1-5 (Q/Ans and RTC)
	Unseen Comprehension
	Creative Writing on Dialogue Writing, Informal/Formal Writing, Story Writing,
	Informal/Formal Letter, Report Writing.
Mathematics	(Ch # 07) Algebraic equations and simple inequalities, (Ch # 08) Perimeter and Area of
	simple geometrical figures, (Ch#15) Angle properties of polygon, (Ch# 13b) Statistics, (Ch# 10) Rate, Ratio and speed, (Ch# 11) Percentages.
Urdu	ادب <u>:</u> ایک پودااور گھاس، کروعقل استعال، جاوید منز ل، تصویر کاایک رخ، ہم تارے چاندستارے ہیں، نیک دل اسلم، عدلِ
	فاروقی ٔ (اسباق کی تمام مشقیں)
	قواعد: کلمه کیا قسام اورانکی تعریف ومثق،واحد جمع،متضاد،متر ادف، تفهیم سازی، کهانی،درخواست،ضربالمثال،اسم نکره کی
	 اقسام، خط نولیی، مضمون نولیی، مذکر مونث، محاورات، مکالمه نولیی، ترجمه نولیی، مصنف(فرحت الله بیگ اور مولاناماهر
	سر بری شد کرد شان در در می از در در می در می در در می در در در می در
	القادری) اور شاعر (علامی شبلی نعمانی اور مجیدامجد) کا تعارف۔
	القادری) اور شاعر (علای جی تعمالی اور مجید امجد) کا تعارف نرد بان: صفحه نمبر ۱۱،۵ ، ۲۳،۲ ، ۲۹
Science	رد بان: صفحه نمبر ۱۰۵،۵۰ ، ۲۳،۲۰ ، ۲۹ ، ۲۳،۲۰ ، ۲۹ . Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory
	ترد بان: صفحه نمبر ۱۲۳،۲۰، ۲۳، ۲۳، ۲۳، Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed
Social	روبان: صفحہ نمبر (۲۳،۲۰،۱۱۵) Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India,
	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the
Social	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals.
Social	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. <i>Geography:</i> Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains,
Social	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. <i>Geography:</i> Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains, Central Pakistan, Climate, The Indus River System.
Social Studies	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. <i>Geography:</i> Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains, Central Pakistan, Climate, The Indus River System. All work done in history and geography journals including maps.
Social	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. <i>Geography:</i> Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains, Central Pakistan, Climate, The Indus River System. All work done in history and geography journals including maps. Life of the Holy prophet, Hazrat Muhammad as Khatam u Nabieen, Family life of the holy
Social Studies	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. <i>Geography:</i> Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains, Central Pakistan, Climate, The Indus River System. All work done in history and geography journals including maps. Life of the Holy prophet, Hazrat Muhammad as Khatam u Nabieen, Family life of the holy prophet, Introduction to Islam, Revelation of Quran, Mothers of faithful, Importance of
Social Studies	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. <i>Geography:</i> Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains, Central Pakistan, Climate, The Indus River System. All work done in history and geography journals including maps. Life of the Holy prophet, Hazrat Muhammad as Khatam u Nabieen, Family life of the holy
Social Studies	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed <i>History:</i> The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. <i>Geography:</i> Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains, Central Pakistan, Climate, The Indus River System. All work done in history and geography journals including maps. Life of the Holy prophet, Hazrat Muhammad as Khatam u Nabieen, Family life of the holy prophet, Introduction to Islam, Revelation of Quran, Mothers of faithful, Importance of Dua, 4 surahs, 4 hadith.
Social Studies	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed History: The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. Geography: Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains, Central Pakistan, Climate, The Indus River System. All work done in history and geography journals including maps. Life of the Holy prophet, Hazrat Muhammad as Khatam u Nabieen, Family life of the holy prophet, Introduction to Islam, Revelation of Quran, Mothers of faithful, Importance of Dua, 4 surahs, 4 hadith. Read the chapters thoroughly.
Social Studies Islamiat	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed History: The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. Geography: Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains, Central Pakistan, Climate, The Indus River System. All work done in history and geography journals including maps. Life of the Holy prophet, Hazrat Muhammad as Khatam u Nabieen, Family life of the holy prophet, Introduction to Islam, Revelation of Quran, Mothers of faithful, Importance of Dua, 4 surahs, 4 hadith. Read the chapters thoroughly. Unit #3, Unit #4, Unit #6
Social Studies Islamiat	Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy diet, Digestion, The circulatory system, The particle theory, Elements and atom, Element compound and mixture, Speed History: The life and the teaching of Buddha, The rise and fall of Buddhism in India, Mahmud of Ghazni, The Ghauris and the slave dynasty, The decline and the fall of the Sultanate of Delhi, The Mongols, The Rajputs, The Early Mughals. Geography: Pakistan-Our Country, Pakistan Physical Regions, The Northern Mountains, Central Pakistan, Climate, The Indus River System. All work done in history and geography journals including maps. Life of the Holy prophet, Hazrat Muhammad as Khatam u Nabieen, Family life of the holy prophet, Introduction to Islam, Revelation of Quran, Mothers of faithful, Importance of Dua, 4 surahs, 4 hadith. Read the chapters thoroughly. Unit # 3, Unit #4, Unit # 6 Light Science skills and knowledge, How plants grow, A healthy decline and the circulatory system.



Grade – VI

English	Grammar; Unit 1-8 Macmillan, Composition; Essay writing and story writing, Comprehension; Unseen passage, Chapter 1-9 Matilda (Word/ meanings, Questions/ Answers, Reference to the Context, Character Sketch).
Mathematics	Chap-1 Factors and Multiples, Chsp-4 Estimation and Approximation, Chap-2 Integers, Chap-11 Percentages by worksheet, Chap-5 Fundamental Algebra, Chap-12 Functions and Graphs, Chap-10 Rate, Ratio and Speed by worksheet, Chap-14 Basic Geometrical concepts and properties.
Urdu	ادب: ہر چیکدار شے سونانہیں ہوتی، نواب روشن علی، ہمدر دی، تین بھائیوں کی کہانی، بادل کا گیت،اسلامی خطاطی، بیٹے کی
	قربانی۔ (اسباق کی تمام مشقیں)
	قواعد: کلیے کی اقسام اور انکی تعریف و مشق، واحد جمع، متضاد، متر ادف، تفهیم سازی، کہانی، در خواست، خطانو کیی، مضمون نولیی، مذکر مونث، محاورات، مکالمہ نولیی، ترجمہ نولیی، مصنف (صدیق سالک اور اسلم کمال) اور شاعر (
	خطانویسی، مضمون نویسی، مذکر مونث، محاورات، مکالمه نویسی، ترجمه نویسی، مصنف (صدیق سالک اور اسلم کمال) اور شاعر (
	حفيظ جالند هري اوراحمدنديم قاسمي) كانتعارف_
	نرد بان: صفحه نمبر ۲۲،۳۷،۲۴،۲۹۱۹
Science	Introducing Science, Characteristics of living things, Measurement, States of matter, Cell, Major Organ system, Forces and motion, Microorganism, Properties of matter and material
Social Studies	History: Why learn History?, Measuring Time, The Indus Valley Civilization, The rise and fall of the Indus Valley Civilization, The Aryans Civilization, Aryans beliefs and organizations, Egypt and Nile, Pyramids and mummies, The Persian Empire, Alexander the Great, The Mauryan Empire Geography: The Universe, The Earth, The World of Rocks, Mountains, Plate Tectonics All work done in history and geography journals
Islamiat	First Islamic state at Madinah, Tauhid, Azan call to prayer, Cleanliness, Terms used in prayers and its significance, Importance of prayers, Introduction to the holy Quran, Other revealed books, 4 Surahs, 4 Hadith. Read the chapters thoroughly.
Computer	Chap-1 Operating Systems, Chap-2 Adding Graphics and Organization Charts in Power Point, Chap-3 Enlivening a presentation, Chap-4 Editing and formatting data in Ms Excel (All work done in books and copies).
Arabic	الكتاب المبشرون بالجنة: الدرس الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الدرس الثالث عثمان بن عفان رضي
	الله عنه.
	الكتاب لسان القرآن: الدرس العاشر 'الركب التوصيفي' ، الدرس الحادي عشر 'المركب الإضافي'.



Grade – V

Comprehension; Unseen passage, Chapter 1-12 Charlie and the Chocolate Factory Word/ meanings, Questions/ Answers , Character Sketch, Reference to the context Unit 1 Whole Numbers, Unit 2 Four Operations, Unit 3 Fractions, Unit 9 Angle, Unit 8 Volume, Unit 12 Four sided All work done in workbook 5A, 5B and registers. Urdu ——————————————————————————————————	English	Grammar; Unit 1-8 Macmillan, Composition; Essay writing and story writing,
الاتفاد الاسلام المالة 1 Whole Numbers, Unit 2 Four Operations, Unit 3 Fractions, Unit 9 Angle, Unit 8 Volume, Unit 12 Four sided All work done in workbook 5A, 5B and registers. Urdu الاقلام المالة على المالة		Comprehension; Unseen passage, Chapter 1-12 Charlie and the Chocolate Factory
Volume, Unit 12 Four sided All work done in workbook 5A, 5B and registers. Urdu برای این از از این از ا		
All work done in workbook 5A, 5B and registers. Urdu الابن الميار والري، ميني كا مين المياري والهيكس، عظيم ماؤل ك عظيم ميني، مرى يباد كيالان بفرابز والري، ميني كا ميني كا ميني والهيد: كلى كا القدام الوراكي العربية والهيد والميني، على المياري المياري والمدرج متفاد، والعدرج والهيد، متفاد والمورية متفول أوليي، متركم ونيف، علاورات، مكالمه أولي كا الميارية والهيد، والمدرج من معنو وثناء كا القدار الميارية والهيد، معنول أوليي، متمول أولي يكي، برجمه أولي مصنول وثناء كا القدار الميارية والميارية و	Mathematics	•
Urdu الرب: ایک وقت میں ایک تی کام او لیکس، عظیم اؤل کے عظیم بیٹے، مری بیاری امال، فرما بٹر وار کی میٹے کی محبت الرب کا تمام کام اور انگی اور کتاب کا تمام کام اور انگی اور کتاب کا تمام کام اور انگی اور کتاب کا تمام کام کار کی خط کی اقدام اور انگی اور کتاب کام کام کار کی خط کی اقدام اور انگی کی اور است، مکالمہ نو کئی ، ترجمہ نو کی ، مصنف و تناع کا تعارف کے معافد و تنای کا تعارف کے معافد و تناع کا تعارف کے کام کے معافد و تناع کا تعارف کے کا تعارف کے کام کام کا تعارف کے کام		
الناد: المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة الم		
قاعد: کلے کی اقعام اورا کی آفر بیف و مشق ، علامہ اقبال کے اشعار ، واصد تج ، متفاو ، رونیف و قافی ، غرل کی آفر بیف ، تشایم مصنف و شاع کی اقعار فی کی ، شرکم مونف ، عاورات ، مکالمہ تو یکی ، ترجمہ تو یکی ، مصنف و شاع کی اتعارف کے در ابان: مکالمہ تو یکی ، ترجمہ تو یکی ، مصنف و شاع کی اتعارف کے در ابان: مکالمہ تو یکی ، ترجمہ تو یکی ، ترکم مونف کی کا اتعارف کی ، ترکم مونف کی کا اتعارف کے در ابان: 1, the Solar System, Unit: 2, The Unit of life, Unit 3: from parents to young, Unit: 4, life cycle of a flowering plant, Unit: 5, Reproduction from plant parts, Unit: 7, Energy from food, Unit: 8, Transfer of energy. Work book pages: 1-17, 19-57, 66-72, 73-81, Activity book pages: 2-26, 29, 35, 36, 40, 43-46, 52-55 Learn all the work done in copy from above units. Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Arabic Arabic Albacia and the subcion of the subcio	Urdu	ادب <u>:</u> ایک وقت میں ایک ہی کام ، او کمپکس ، عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے ، مری پیاری اماں ، فرما بنر داری ، بیٹے کی محبت
Science Unit: 1, the Solar System, Unit: 2, The Unit of life, Unit 3: from parents to young, Unit: 4, life cycle of a flowering plant, Unit: 5, Reproduction from plant parts, Unit: 7, Energy from food, Unit: 8, Transfer of energy. Work book pages: 1-17, 19-57, 66-72, 73-81,		
Science Unit: 1, the Solar System, Unit: 2, The Unit of life, Unit 3: from parents to young, Unit: 4, life cycle of a flowering plant, Unit: 5, Reproduction from plant parts, Unit: 7, Energy from food, Unit: 8, Transfer of energy. Work book pages: 1-17, 19-57, 66-72, 73-81, Activity book pages: 2-26, 29, 35, 36, 40, 43-46, 52-55 Learn all the work done in copy from above units. Social Studies Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer TheOrit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Library Indexis e likeword library in the computers of the computer of the computers of the computers of the computer of the computers of the computers of the computers of the computer of the computer of the computers of the computer of the computer of the computer of the computer of the com		<u> </u>
Science Unit: 1, the Solar System, Unit: 2, The Unit of life, Unit 3: from parents to young, Unit: 4, life cycle of a flowering plant, Unit: 5, Reproduction from plant parts, Unit: 7, Energy from food, Unit: 8, Transfer of energy. Work book pages: 1-17, 19-57, 66-72, 73-81, Activity book pages: 2-26, 29, 35, 36, 40, 43-46, 52-55 Learn all the work done in copy from above units. Social Studies Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Arabic Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic		سازی، خط نولیی، مضمون نولیی، مذکر مونث، محاورات، مکالمه نولیی، ترجمه نولیی، مصنف وشاعر کا تعارف
4, life cycle of a flowering plant, Unit: 5, Reproduction from plant parts, Unit: 7, Energy from food, Unit: 8, Transfer of energy. Work book pages: 1-17, 19-57, 66-72, 73-81,		
from food, Unit: 8, Transfer of energy. Work book pages: 1-17, 19-57, 66-72, 73-81, Activity book pages: 2-26, 29, 35, 36, 40, 43-46, 52-55 Learn all the work done in copy from above units. Social Studies Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic	Science	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Work book pages: 1-17, 19-57, 66-72, 73-81, Activity book pages: 2-26, 29, 35, 36, 40, 43-46, 52-55 Learn all the work done in copy from above units. Social Studies Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic		
1-17, 19-57, 66-72, 73-81, Activity book pages: 2-26, 29, 35, 36, 40, 43-46, 52-55 Learn all the work done in copy from above units. Social Studies Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Arabic 1-17, 19-57, 66-72, 73-81, Activity book pages: 2-26, 29, 35, 36, 40, 43-46, 52-55 Learn all the work done in copy from above units. 1-2-15 1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Activity book pages: 2-26, 29, 35, 36, 40, 43-46, 52-55 Learn all the work done in copy from above units. Social Studies Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Arabic Arabic Activity book and copy in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic		, e
2-26, 29, 35, 36, 40, 43-46, 52-55 Learn all the work done in copy from above units. Social Studies Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Theory: TheUnit 1 (Application of Creating tables in MS Word) Arabic Theory: TheUnit 1 (Application of Creating tables in MS Word)		
Learn all the work done in copy from above units. Social Studies Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Theory: Italy is the set of the set o		, , , ,
Social Studies Maps, World Climate, Our country, Some important cities, Early History of Islam, Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Theory: TheUnit Islamble is in MS word) Arabic Edward islamble in MS word) Arabic Edward islamble in MS word)		
Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence. Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Theory: Theunit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic 1. Illum 1		
Islamiat Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Theory: Italian in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps. Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadinah, Brotherhood, Al ha	Social Studies	
Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles, Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic تاب السان القرآن! ۱. الدرس الأول: الكلمة و أقسامها ۲. الدرس الثانى: المغرد و المثنى و الجمع و الجمع و المؤنث ٤. الدرس الرابع: الإعراب و ألقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع		Europeans and the subcontinent, The struggle for Independence.
Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Theory: It is a series of MS word) Theory: It is a series of MS word in the computer of the compu		Fill in the blanks, Q/Ans, work pages, worksheets and maps.
salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic تاب السان القرآن! ۱. الدرس الأول: الكلمة و أقسامها ۲. الدرس الثانى: المعرفة و النكرة "٢. الدرس الرابع: الإعراب و ألقابه "٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع الثالث: المذكر و المؤنث ٤. الدرس الرابع: الإعراب و ألقابه "٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع	Islamiat	Islam in Madina, The hijrah, Nabi in Madinah, Brotherhood, The beginnings of battles,
copy and books Computer Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Arabic Ticky Tic		Al hadi, Jannat and jahannum, Quarn-e- Kareem, Dua in times of trouble, Practical
Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic Arabic Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word) It is a storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 5 (Teatures of MS Word) It is a storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Teatures of MS Word) Arabic Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word) It is a storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word) Arabic Theory: TheUnit 1 (Application of MS Word) Arabic Theory: TheUnit 2 (Data storage devices), Tricky terms and all the exercises in book and copy. Theory: The Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word) Theory: The Unit 4 (Formatting of MS Word) The Unit 4 (Formatting of MS Word) The Unit 5 (Features o		salah. The full seerah section. (Read the chapters thoroughly). All the work done in
terms and all the exercises in book and copy. Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic ما النص: ١. العصفور المسكين ٢. النحلة الكسولة والمسامة ١٠ الدرس الثانى: المعرفة والنكرة ٣. الدرس الأول: الكلمة والقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد والمثنى والجمع الثالث: المذكر والمؤنث ٤. الدرس الرابع: الإعراب والقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد والمثنى والجمع		copy and books
Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5 (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) Arabic Arabic كتاب السان القرآن!: ١. الدرس الأول: الكلمة و أقسامها ٢. الدرس الثانى: المعرفة و النكرة ٣. الدرس الرابع: الإعراب و ألقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع	Computer	Theory: TheUnit 1 (Application of computers), Unit 2 (Data storage devices), Tricky
Arabic (Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word) النص: ١.العصفور المسكين ٢. النحلة الكسولة كتاب السان القرآن : ١. الدرس الأول: الكلمة و أقسامها ٢. الدرس الثانى: المعرفة و النكرة ٣. الدرس الرابع: الإعراب و ألقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع		terms and all the exercises in book and copy.
النص: ١.العصفور المسكين ٢. النحلة الكسولة كتاب السان القرآن : ١. الدرس الأول: الكلمة و أقسامها ٢. الدرس الثانى: المعرفة و النكرة ٣. الدرس الربع: الإعراب و ألقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع		Practical: Unit 3 (More about windows), Unit 4 (Formatting of MS Word), Unit 5
النص: ١.العصفور المسكين ٢. النحلة الكسولة كتاب السان القرآن : ١. الدرس الثانى: المعرفة و النكرة ٣. الدرس الأول: الكلمة و أقسامها ٢. الدرس الثانى: المعرفة و النكرة ٣. الدرس الرابع: الإعراب و ألقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع		(Features of MS Word), Unit 6 (Creating tables in MS Word)
الثالث: المذكر و المؤنث ٤. الدرس الرابع: الإعراب و ألقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع	Arabic	النص: ١.العصفور المسكين ٢. النحلة الكسولة
الثالث: المذكر و المؤنث ٤. الدرس الرابع: الإعراب و ألقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع		كتاب السان القرآن : ١. الدرس الأول: الكلمة و أقسامها ٢. الدرس الثاني: المعرفة و النكرة ٣. الدرس
Note: All the work done in the copy is included (vocabulary from lisan ul Quran).		الثالث: المذكر و المؤنث ٤. الدرس الرابع: الإعراب و ألقابه ٥. الدرس الخامس: المفرد و المثنى و الجمع
		Note: All the work done in the copy is included (vocabulary from lisan ul Quran).



Grade – Extensive

English	Articles, Parts of the speech, Preposition (from the hand out), Verb Noun Agreement Direct and Indirect Speech, Phrases and Clauses, Comprehension, Essay Writing, Application Writing
Mathematics	(Ch # 7) Algebraic equations and simple inequalities, (Ch# 13) Statistics Ex.(a,c,d.e), (Ch# 2) Integers, (Ch#1) Factors and multiples, (Ch# 04) Estimation, (Ch#05) Fundamentals of Algebra, (Ch#12) Functions and graphs.
Urdu	ادب: چپاچھکن نے دھوبن کو کپڑے دیئے،شہزادی کی کہانی، سینماکاعاشق،وطن پہ قربان جاں ہماری، علی بخش، جنگ یر موک
	 کاواقعہ، چاند تارے کاپر چم، کو شش و محنت - (اسباق کی تمام مشقیں)
	قواعد: کلمے کیا قسام اورانکی تعریف ومشق، واحد جمع، متضاد ، متر ادف، تفہیم سازی، کہانی ، درخواست ، سابقے ولاحقے ،
	ر پورٹ، جملوں کی ساخت میں تبدیلی،اسم نکرہ و معرفہ کی اقسام،خط نولیی، مضمون نولیی،مذکر مونث،محاورات،م کالمہ نولیی،
	ترجمه نولیی، مصنف (کرش چندراور قدرت الله شهاب) اور شاعر (مولاناالطاف حسین حالیاور قیوم نظر) کا تعارف
Science	Introducing science, The particle theory, A healthy diet, Characteristics of living things, Measurement, Elements and atom, Cells, Speed, Microorganism, Element, atom and compound
Social Studies	History: The Early Mughals, The career of Akbar the great, Akbar's reforms, Jahangir and Shah Jehan, Aurangzeb's career, Aurangzeb's achievements, The end of the Mughal Empire
	Geography: Maps, Our country, Special lines of latitude, Pakistan –Our country, Pakistan's Physical Regions, Northern Mountains, Central Pakistan
	All work done in history and geography maps including maps.
Islamiat	Life of the Holy prophet, Hazrat Muhammad as Khatam u Nabieen, Introduction
	to Islam, Revelation of Quran, Mothers of faithful, Zakah, 4 Surah, 4 Hadith.

Syllabus for Mid Term Examination 2013

Grade – V Hifz



English	Unit 1-6 Macmillan, Comprehension, Essay Writing
Mathematics	Unit # 1 Whole Number, Unit # 2 Four Operations, Unit # 3 Fractions, Unit # 4 Ratio,
	Unit # 12 4-sided figures.
	Note: All work done in copies.
Urdu	ادب: ایک وقت میں ایک ہی کام، او کمپکس، عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے، مری پیاری اماں، فرما بنر داری، بیٹے کی محبت
	(کاپی اور کتاب کاتمام کام)
	قواعد: کلے کی اقسام اور انکی تعریف ومشق، علامہ اقبال کے اشعار ، واحد جمع ، متضاد ، ر دیف و قافیہ ، غزل کی تعریف ، تفہیم سازی ، خط نولیی ، مضمون نولیی ، مذکر مونث ، محاور ات ، مکالمہ نولیی ، ترجمہ نولیی ، مصنف و شاعر کا تعارف
	سازی، خطانولیی، مضمون نولیی، مذکر مونث، محاورات، مکالمه نولیی، ترجمه نولیی، مصنف وشاعر کا تعارف

Grade – VI Hifz

English	Unit 1-5 Macmillan, Comprehension, Essay Writing.
Mathematics	Unit # 6 Percentage, Unit # 4 Ratio, Unit # 11 Area of triangle, Unit # 8 Volume (by



	worksheet). Note: All work done in copies.
Urdu	·
Ordu	<u>ادب:</u> ہر چیکدارشے سونانہیں ہوتی، نواب روش علی، ہمدر دی، تین بھائیوں کی کہانی، بادل کا گیت،اسلامی خطاطی، بیٹے کی
	قربانی۔(اسباق کی تمام مشقیں)
	قواعد: کلمه کیا قسام اورانکی تعریف ومشق، واحد جمع، متضاد ،متر ادف، تفهیم سازی، کهانی ، در خواست ،خط نولیی، مضمون
	نولیی، مذکر مونث، محاورات، مکالمه نولیی، ترجمه نولیی، مصنف (صدیق سالک اوراسلم کمال) اور شاعر (حفیظ جا
	لند هری اوراحد ندیم قاسمی) کا تعارف_